

Q:7) Translate the following into English (10)

كبهى كبهى ميں خاموشى سے اپنے آپ سے يه سوال كرتا هوں كه آخر ميں
اپنى منزل كے بارے ميں اتنا غير سنجيده كيوں هوں۔ دل كے كسى گهرے

گوٹھے میں یہ احساس ہمیشہ زندہ رہتا ہے کہ میری زندگی کا ایک بڑا مقصد ہے، ایک ایسی منزل جو میری ہستی کو معنی دے سکتی ہے۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ میں خود ہی اپنی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہوں۔ وقتی آسائشیں، معمولی مصروفیات اور سستی میرے ارادوں کو آہستہ آہستہ کمزور کر دیتی ہیں۔ جب رات کی تنہائی میں اپنے دن کا محاسبہ کرتا ہوں تو دل پر ایک بوجھ سا اتر آتا ہے، جیسے میں نے اپنے ہی خوابوں کے ساتھ ناانصافی کی ہو۔ شاید مسئلہ قابلیت کا نہیں بلکہ عزم کی کمی کا ہے۔ جس دن میں نے اپنے مقصد کو اپنی خواہش نہیں بلکہ اپنی ذمہ داری سمجھ لیا، اسی دن میری زندگی کا رخ بدل جائے گا۔

DATE: _____

M T W T F S S

Q: Translate the following into English

→ Sometimes I quietly ask question from myself that why i am not serious about my destination.

However, in any corner of my heart, the feeling is present that there is some big meaning of my life which will give color to my destination. But the strange thing is that, i myself is a barrier. Temporary luxurious, little business and laziness is trying to weak my will. During night, when I look over my day, my heart feels down and i think that i, myself, is doing injustice to my dreams. The problem is not of intelligence but determination. Whenever, i considered my dream as responsibility not wish, then my life take a new turn.